

27

Islamic Studies

BA BSc (Compulsory, Elective, Optional)

سلیبس اسلامیات (لازمی) بی اے دو سالہ پروگرام

نصاب مطالعہ اسلامیات (لازمی)

برائے بی اے، بی ایس سی اور بی کام

مطالعہ اسلامیات (لازمی) کے لیے 60 نمبر مختص ہوں گے۔

نصابی خاکہ

| | |
|---------|-------------------------|
| 20 نمبر | ۱۔ قرآن مجید |
| 10 نمبر | ۲۔ حدیث شریف |
| 10 نمبر | ۳۔ سیرت النبی ﷺ |
| 10 نمبر | ۴۔ اسلامی تہذیب و ثقافت |
| 10 نمبر | ۵۔ معروضی سوالات |

(معروضی سوالات پورے نصاب پر مشتمل ہوں گے)

اس مضمون کی تدریس و امتحانات کے لیے اردو، عربی اور انگریزی زبانوں کی اجازت ہے۔

نصابی تفصیلات

اہداف و مقاصد:

- ۱۔ طلبہ کو قرآن و حدیث سے استفادہ کے قابل بنانا۔
- ۲۔ طلبہ کے قلوب و اذہان میں قرآن و سنت کی روح اور علم کو راسخ کرنا۔
- ۳۔ طلبہ میں اسوہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حب رسول کا جذبہ پیدا کرنا۔
- ۴۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا فہم آسان بنانا اور طلبہ کی اسلامی بنیادوں پر تربیت کرنا۔
- ۵۔ امت مسلمہ کو درپیش عصر جدید کے چیلنجوں سے طلبہ کو آگاہ کرنا۔

نصابی تفصیلات:

۱۔ القرآن الکریم

(الف) قواعد لغۃ القرآن (قرآنی گرامر)

الماضی والمضارع، الامر والنهی، الجملة الاسمية والفعلية المركب الاضافی والتوصیفی، الضمائر وحروف الجر.

(ب) منتخب قرآنی آیات کا نحوی و با محاورہ ترجمہ و تشریح

مطالعہ قرآن مجید کی ضرورت و اہمیت

قرآن مجید سے متعلق موضوعات کے بارے میں آیت دی جائے گی اور آیت کی تشریح طلب کی جائے گی۔

قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ و تشریح کریں

(i) (سورۃ البقرۃ (2) آیات 1 تا 5 و 284 تا 286) ایمانیات۔

(ii) (سورۃ الاحزاب (33) آیات: 6, 21, 32, 33, 40, 56 تا 59)

(تخصصات نبویہ، اسوہ حسنہ، ختم نبوت، مقام رسالت، ماموس رسالت، ازواج انبیاء)۔

(iii) الفتح (48) آیت: (29) (رسالت محمدیہ اور خصائص اصحاب رسول)

(iv) سورۃ القصف (61) آیات: 1 تا 14 (بشارت بعثت ختم المرسلین، ہجرت، جہاد، نصرت اور غلبہ دین)

(v) سورۃ الحجرات: (49) آیات: 1 تا 18. (ادب نبوی و معاشرتی احکام)

(vi) سورۃ الانعام: (06) آیات: 151 تا 153۔ (حقوق العباد)۔

(vi) سورۃ الفرقان: (25) آیات: 63 تا 77۔ (آداب معاشرت)۔

(vii) (سورۃ النحل: 16) آیات: 12 تا 14۔ (تکروم و تدبیر)۔

الاحادیث النبویہ

منتخب احادیث نبویہ کا نحوی و با محاورہ ترجمہ اور تشریح

(نوٹ) ساڈھ کرام آیات و احادیث کی تعلیم و تدرب کے دوران نحوی اور با محاورہ ترجمہ کے ضمن میں مندرجہ بالا قواعد عربیہ کی تطبیق کریں۔

۱. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَأْنُوِيٌّ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (بخاری: ۱)

۲. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (بخاری نمبر ۵۰۴۷)

۳. عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ (رواه مالک فی الموطأ مرسل)

۴. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ فَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّمًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِتْيَانُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (صحيح مسلم: ۱۱۳)

۵. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَلْبِيذُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرَ السَّفَرِ وَمَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ

أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ
 إِنْ امْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ صَدَّقْتَ، قَالَ فَبِجَنَاتِكَ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ صَدَّقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ
 تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ
 أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحَقَّاءَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَنْطَاقُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثَ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ
 لِي: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يَعْطِيكُمْ دِينَكُمْ (رواه مسلم: ٩٣)

٦. عَنْ شَبْرَةَ ابْنِ مَعْبُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا
 بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْفُطَيْهِ عُلَمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ ابْنَ عَشْرَةَ
 (صحيح بخاري، ترمذي: ٣٠٤)

٤. عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (رواه البخاري: ٣١١٦)
 ٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا
 إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَادَرَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ
 وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (رواه مسلم)

٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ
 وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ. (رواه مسلم واحمد، ابو داود، مشكوة المصابيح: ٢٨٢٨.
 سنن ابن ماجه: ٢٥٠)

١٠. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ
 عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عَمَلِهِ فِيمَا آفَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.
 (جامع الترمذي: ٢٣١٦)

١١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ
 (شعب الإيمان: ١١١)

١٢. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْتَأَجِرُ الصُّلُوقِ إِلَّا مَعِ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ
 (جامع ترمذي: ١٢٠٩، سنن دارمي، سنن دارقطني)

١٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ
 لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ أَمْسَى مِنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا
 وَمَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ لَئِنْ لَبِثْتَ حَسَنَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ
 طُرِحَ فِي النَّارِ. (رواه مسلم، كتاب البر: ٢٥٤٩)

١٤. عَنْ أَبِي التَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا شَيْءٌ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ
 لِإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَيْدِيَّ (ترمذي: ٢٠٠٢)

١٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا
وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا وَرُوحَةً لَا تَبْغِيهِ حُوبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالًا (معجم طبراني ومشكوة: ٣٢٤٣)
(من نسائي، كنز العمال: ٣٣٣٠٩)

١٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ
قَالَ: الشُّرْكَ بِاللَّهِ وَالسُّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَكُّلُ يَوْمَ الزُّحْفِ وَقُلْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (متفق عليه)

١٧. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَغْيِرْهُ بِيَدِهِ فَإِذَا
نُ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم: ١٤٤)

١٨. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَفْئَابُهُ
فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطْحَنِ الْجَمَارِ بِرِجَاهِ فَيَجْمَعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيُّ فُلَانٍ مَا شَانُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ كُنْتُ أَمُرُّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ (بخاري: ٣٢٦٤ و مسلم)

١٩. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا
يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه مسلم: ١٤٠)

٢٠. وَعَنِ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ
وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا أَشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (متفق عليه بخاري: ١٠١١)

٢١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
فَالِإِمَامُ الْأَعْلَى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى
بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِمْ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(بخاري: ٤١٣٨ و ترمذي: ١٤٠٥)

٢٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَلَى وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرِ أَحْسَنِ بَنِي نَهْ،
تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعٌ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النَّظَارُ رِيحًا يَجِبُونَ مِنْ حُسْنِ بَنَانِهِ إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، حُجِمَ لِي
الْبُنْيَانُ وَحُجِمَ بِي الرُّسُلُ وَفِي رِوَايَةٍ: لَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. (رواه البخاري: ٣٥٣٥)

٢٣. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ عَمْرٌ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءٌ
عَثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ وَالْفَرَضُ مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ تَابِتٍ، وَأَقْرَأُهُمْ أَبِي بَنُ كَعْبٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.
(رواه أحمد والترمذي، مشكوة المصابيح، باب مناقب العشرة)

٢٤. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَقْبَلُ
عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَكَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ عِظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (بخاري: ٢٤٠٣)

٢٥. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ..... (متفق عليه بخاري: ٣٦٥٠)

۲۶. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خُطِبْنَا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ زَيْتَكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا فَضْلٌ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلْيَبْلُغْ الشَّاهِدُ هَذَا الْغَائِبَ فَلْيَبْلُغْ الشَّاهِدُ هَذَا الْغَائِبَ. (البيهقي، شعب الايمان، باب في حفظ اللسان، فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء)

3- سیرت النبی ﷺ

- (i) مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت۔
(ii) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب۔ (ہجرت، ميثاق مدینہ، صلح حدیبیہ اور خطبہ حجۃ الوداع)
(iii) تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کا نبوی منہاج اور عملی نمونہ۔
(عشرہ مبشرہ، اہمات المؤمنین اور اولاد النبی)
(iv) تشکیل اجتماعیت و معاشرت اور اسوہ حسنہ۔

4- اسلامی تہذیب و ثقافت

- (الف) اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص۔
توحید، روحانیت، تصور مسوئیت، انسانی عظمت و مساوات اور عالمگیر اخوت۔
عدل اجتماعی، اخلاقی اقدار، انسانی حقوق، رواداری، اعتدال و توازن۔
(ب) اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات
(ج) مغربی تہذیب و ثقافت اور اسلام
(i) مغربی تہذیب و ثقافت کے خصائص و اثرات
(ii) تہذیبوں کے تصادم کے نظریہ کا تنقیدی جائزہ
مجوزہ کتب عربی:

| | |
|-----------------------------|---|
| ۱- القرآن الکریم | |
| ۲- الخطیب التبریزی | مکتوٰۃ المصاح |
| ۳- ابن کثیر الدمشقی | تفسیر ابن کثیر |
| ۴- شهاب الدین محمود آلوسی | تفسیر روح المعانی |
| ۵- سید قطب | فی ظلال القرآن |
| ۶- ابن ہشام | السیرۃ النبویہ |
| ۷- ابوالحسن علی ندوی | قصص النبیین (جلد اول تا پنجم) |
| ۸- مصطفیٰ امین و علی انجرام | انحو الواسع فی قواعد اللغۃ العربیہ (جلد اول تا ششم) |
| ۹- ڈاکٹر فاء عبدالرحیم | دروس اللغۃ العربیہ |
| ۱۰- جماعۃ المؤمنین | دائرة المعارف الاسلامیہ (عربی) |

مجوزہ اردو کتب:

- | | | |
|---------|--------------------------------------|---|
| ۱۔ | امین احسن اصلاحی | مدبر القرآن |
| ۲۔ | پیر کرم شاہ الازہری | خیال القرآن |
| ۳۔ | سید ابوالاعلیٰ مودودی | تفہیم القرآن |
| ۴۔ | مفتی محمد شفیع | تفسیر معارف القرآن |
| ۵۔ | عبدالحفیظ بلیاوی | مصباح اللغات |
| ۶۔ | ایم ڈی چوہدری | عربک گرامر اینڈ ڈرائیوٹا سلیشن |
| ۷۔ | ڈاکٹر مظہر معین | تعلیم اللغۃ العربیہ (مختصر قواعد) |
| ۸۔ | عبدالرحمن طاہر مدنی | قواعد القرآن (مختصر قرآنی عربی گرامر) |
| ۹۔ | محمد نعمان طشقندی (A.I.O.U) | اللسان العربی |
| ۱۰۔ | مولانا عبدالستار خاں | عربی کا معلم |
| ۱۱۔ | پدر عالم میرٹھی | ترجمان السنۃ |
| ۱۲۔ | محمد منکون نعمانی | معارف الحمد یرث |
| ۱۳۔ | شکیل نعمانی | سیرۃ نبوی |
| ۱۴۔ | پیر کرم شاہ | خیال نبوی |
| ۱۵۔ | محمد سلیمان منصور پوری | رحمۃ للعالمین |
| ۱۶۔ | صفی الرحمن مبارکپوری | الرحیق المختوم |
| ۱۷۔ | ڈاکٹر خالد علوی | انسان کامل اور اسلام کا معاشرتی نظام |
| ۱۸۔ | سید سلیمان ندوی | سیرۃ عائشہ |
| ۱۹۔ ۲۰۔ | شاہ معین الدین ندوی | سیر الصحابہ — تاریخ اسلام |
| ۲۱۔ | حفیظ تائب | اصحابی کا مجموعہ |
| ۲۲۔ | راغب الطباخ ترجمہ افتخار لہجی | (الثقافۃ الاسلامیہ) تاریخ افکار علوم اسلامی |
| ۲۳۔ ۲۴۔ | سید ابوالاعلیٰ مودودی | تحقیقات — اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی |
| ۲۵۔ | محمود احمد ظفر | عشرہ مبشرہ |
| ۲۶۔ | صدر الدین اصلاحی | معرکہ اسلام اور جاہلیت |
| ۲۷۔ | ڈاکٹر محمد حمید اللہ | خطبات بہاولپور |
| ۲۸۔ | سید قطب شہید ترجمہ ساجد الرحمن صدیقی | اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل |
| ۲۹۔ | پروفیسر خورشید احمد | اسلامی نظریہ حیات |
| ۳۰۔ | محمد قطب | اسلام اور جدید ذہن کے شبہات |

Recomended Books English

- 1.The Holy Quran (Text, Translation & comentry): Abdullah Yousaf Ali
- 2.The Glorion Quran: Muhammad Marma Duke Pickthall
- 3.The Message of Quran: Muahhad Asad (Leopold Weiss)
- 4.Sahih,al,Bukhari (English Translation) Muhammad Mohsin Khan.
- 5.Takalam.al.Arahiyyah (تکلم العربیہ) Arabic.English:Muhmud Ismaeel al.Seemi
- 6.Al.Mawrid (امور) English, Arabic Dictionary, Munir al.Balahakki.
7. The Road of Makkah: Muhammad Asad (Leopold Weiss)
8. Quran ,Bible & Science (القرآن والانبیل والعلم): Maurice de Bouccai
- 9.Towards Understanding Islam(دینیات ومبادی اسلام): Abul Ala Maudoodi
- 10.Introduction to Islam (المدخل فی الاسلام): Dr. Muhammad Hamid ullah.
11. Sptit of Islam(روح اسلام): Syed Ameer Ali
12. Purdah & Status of woman in Islam (پردہ):Abul Ala Maudood
- 13.Ettiquates of Life in Islam:(آسان فقہ) Muhammad Yousaf Islahi.
- 14.Social Justice in Islam: sayyed Qutb
(اسلام میں عدل اجتماعی)
- 15.Islam in Theory & Practice: Maryam Jamila (Margrate Nareus)(اسلامی نظریہ ایک تحریک)
16. Umer The Great.(الفاروق) Shibli Nomani (translated by Zafar Ali Khan)

Syllabus Ethics

(For B.A non-Muslims students)

Mark:60

- 1. Defination and scope of ethics :relation of ethics to psychology,metaphysics and religion.**
- 2. A brief review of major theories of the maoral standard**
 - (a) The standard as law.**
 - (b) The standard as Happiness.**
 - (c) The standard as Perfection.**
- 3. Promotion of moral values in society through family &various educational and cultural institutions ,concept of good and evil , freedom and responsibility,Various theories of punishment.**
- 4. Ethical teachings of world religions with special referenc to Hinduism,Christianty,Budhism,Judaism and Islam.**
- 5. 100 ethical percepts from Quranic verses sayings of the Holy Prophet (Peace be upon Him)**
- 6. Islam's attitude towards minorities.**

سلیبس علوم اسلامیہ بی۔ اے (اختیاری)

| Paper | Title of Course | Marks |
|--------------|-----------------|------------|
| A | (Written): | 100 |
| B | (Written): | 100 |
| Total | | 200 |

پرچہ (الف)

کل نمبر 100

10

30

30

10

20

القرآن الکریم

۱۔ تعارف تفسیر

۲۔ ترجمہ قرآن مجید

۳۔ قرآن مجید کے مجوزہ عنوانات کا مطالعہ

۴۔ عربی قواعد

۵۔ معروضی سوالات

القرآن الکریم

۱۔ تعارف تفسیر

تفسیر کا معنی و مفہوم اور اس کی ضرورت و اہمیت

تفسیر کی اقسام (تفسیر الماثور، تفسیر بالرأی)

تفسیر قرآن مجید کے ماخذ قرآن مجید، حدیث نبوی ﷺ، اقوال صحابہ کرامؓ، اقوال تابعین

(ماخذ پر مجموعی سوال پوچھا جائے گا)

قرآن مجید کا دیگر کتب سماوی سے موازنہ

۲۔ سورۃ البقرہ: آخری تین رکوع

سورۃ النور: مکمل

دونوں سورتوں میں سے با محاورہ ترجمہ پر مبنی سوال پوچھا جائے گا۔ البتہ لفظی ترجمہ بھی قابل قبول ہوگا۔

۳۔ مجوزہ عنوانات کا مطالعہ:

(الف) سورۃ البقرہ کے آخری تین رکوع میں سے مندرجہ ذیل موضوعات پر جامع مضمون

حرمت خمر و میسر۔ ایلاء۔ طلاق۔ خلع۔ عدت۔ رضاعت۔ مہر۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ حرمت ربوا۔ ہداینت۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ حلت و حرمت کے مسائل۔

(ب) سورۃ النور کی روشنی میں مندرجہ ذیل موضوعات پر جامع مضمون:

صفات الہیہ۔ حدود اللہ (حدزنا۔ حدقذف) لعان۔ واقعہ فک۔ بلاغیات کا اسلامی تصور (اشاعت فحش کی ممانعت) احکام پر وہ، استیذان۔ اطاعت

رسول ﷺ۔ مجلس نبوی کے آداب۔ حکومت الہیہ کا قیام۔ حسن معاشرت۔

۳۔ عربی قواعد:

جملہ اسمیہ و فعلیہ۔ مرکب اضافی و توصیفی۔ اسم فاعل اور اسم مفعول۔ فعل ماضی۔ فعل مضارع۔ امر و نہی۔ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کی پہچان۔
۵۔ معروضی سوال پر چہ الف کے تمام اجزاء پر مشتمل ہوگا۔ (معروضی سوال لازمی ہوگا، باقی چھ میں سے چار سوال حل کرنا ہوں گے)

پرچہ (ب) حدیث فقہ و تاریخ اسلام

نمبروں کی تقسیم مندرجہ ذیل ہے

| | |
|---------|-------------------------------|
| 10 نمبر | ۱۔ تعارف حدیث |
| 10 نمبر | ۲۔ تعارف فقہ |
| 20 نمبر | ۳۔ مطالعہ حدیث |
| 20 نمبر | ۴۔ مطالعہ فقہ |
| 20 نمبر | ۵۔ سیرت النبی ﷺ و تاریخ اسلام |
| 20 نمبر | ۶۔ معروضی سوال (لازمی) |

(معروضی سوال لازمی ہوگا، باقی چھ میں سے چار سوال حل کرنا ہوں گے)

۱۔ تعارف حدیث

حجیت حدیث: منکرین کے اعتراضات کا مختصر جائزہ

حفاظت حدیث: عہد نبوی، عہد صحابہ کرام اور عہد تابعین (تمام ادوار پر مبنی ایک جامع سوال پوچھا جائے گا۔)

مطالعہ حدیث: 146 حدیث (پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس کے مطابق)

۱. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ؛ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ، وَآتَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ، وَآتَاءَ النَّهَارِ (صحيح مسلم: باب فضا ئل القرآن، حدیث نمبر ۱۸۹۴)

۲. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا؛ وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ (صحيح بخاری: ۱۶)

۳. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّكُونَ الْمُؤْمِنِينَ جَبَانًا؟ قَالَ نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّكُونَ الْمُؤْمِنِينَ بَخِيلًا؟ قَالَ نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّكُونَ الْمُؤْمِنِينَ كَذَّابًا؟ قَالَ لَا (رواه مالك في الموطأ و البيهقي في السنن)

۴. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزِينِي الزَّانِي حِينَ يَزِينِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقَ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةَ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغْلُ أَحَدًا كُمْ حِينَ يَغْلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنَا كُمْ إِنَا كُمْ (صحيح بخاری: ۶۷۷۲)

۵. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكْبَسُ النَّاسُ وَأَحْرَمُ النَّاسُ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ ذِكْرُ الْمَوْتِ

وَأَكْثَرُهُمْ اسْتَعْمَادًا أَوْ لِيَكُ الْأَكْيَاسُ ذَهَبًا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْأَجْرَةِ (رواه الطبراني في المعجم الصغير)
 ٦. عَنْ عُمَرَوِ بْنِ عَرْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَا فَسَوْهَا كَمَا تَنَا فَسَوْهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ (متفق عليه)
 ٧. عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ نَيْتُهُ طَلَبَ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نَيْتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ (مسند احمد وسنن دارمي)

٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ يَعْنِي النَّارَ

٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ فَضَّلَ عَلَيْهِ (متفق عليه . صحيح بخاري: ٦٣٩٠)

١٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَمَا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسُّخْطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَى مُتَّبِعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاعْتِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ (رواه البيهقي في شعب الایمان)

١١. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَا لَيْسَ لَهُ مِنْ آيِنٍ إِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ (جامع الترمذي: ٢٣١٦)
 ١٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هَذَا مِنَ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ: إِنِّي الْمَحَارِمُ تَكُنُّ أَحْبَبُ النَّاسِ وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُّ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنُّ مُؤْمِنًا وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنُّ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرُ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تَمِثُّ الْقَلْبَ (جامع ترمذي)

١٣. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا أُمَّعَةً تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطَنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَافْلَاتُظَلِمُوا (ترمذي)

١٤. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْبِرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ يَفْضِلُ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤَدُّوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ (جامع ترمذي)

١٥. عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ (رواه البخاري ٦٣٤٣)

١٦. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَ

إِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي (جامع الترمذی)

١٤. عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبَّنَا حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّ هُمَا صَفْرًا (جامع الترمذی، سنن ابی داؤد)

١٨. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَيْدُوا صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهَوْ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنُ الْعَاهَةُ (صحيح مسلم: ٣٨٢٢)

١٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بَلَاءً فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: آصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا (صحيح مسلم، جامع الترمذی)

٢٠. عَنْ وَالِدِ بْنِ الْأَنْعَقِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يَبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقَبِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ (رواه ابن ماجه)

٢١. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ (سنن ابی داؤد)

٢٢. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّاسُ جُرُ الصُّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (جامع الترمذی: ١٢٠٩، سنن دارمی، سنن دارقطنی)

٢٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتَلَقَى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبَّعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَا جَشُوا وَلَا يَبَّعُ حَا ضِرُّ لِبَادٍ وَلَا تُصْرُوا الْأِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَا عَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (صحيح مسلم)

٢٤. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَالِبُ مَرُزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (سنن ابن ماجه)

٢٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمْ (سنن ابی داؤد)

٢٦. عَنْ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خَسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ (صحيح بخارى)

٢٧. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (متفق عليه)

٢٨. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (سنن ابن ماجه)

٢٩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (صحيح بخارى)

٣٠. عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَبَّكَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عُدِلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ

بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ
(سنن ابى داؤد)

٣١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ
وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُهُ إِذَا لَقِيَهُ وَيُسَمِّنُهُ إِذَا عَطَسَ وَيُنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ
٣٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَذَلُّكُمْ عَلَى
شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُّ بَيْنَكُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (رواه مسلم)

٣٣. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى
الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصُدَّقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَالِحًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ
الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يُكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ
الصَّدَقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

٣٤. عَنْ أُمِّ كَلْبُومَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يُضْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيُنِمِّي خَيْرًا (متفق عليه)
٣٥. عَنْ الْمُغِيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَابًا وَكِرَةً لَكُمْ
قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاضَاعَةَ الْمَالِ (متفق عليه)

٣٦. عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاظِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ
إِذَا اشْتَكَى غَضُو تَدَاعَى لَهُ سَائِرِ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى (متفق عليه)

٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَبِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا تَنَافَسُوا (متفق عليه)

٣٨. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (رواه البخاري)
٣٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّيْبَانُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّيْبَانُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
(متفق عليه)

٤٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَارَعَنِي وَاجْتَنَبَ
مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَفِي رِوَايَةٍ قَدْ فَتَنَهُ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

٤١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ
فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَلْمًا وَقَلَفَ هَلْمًا وَأَكَلَ مَالَ هَلْمًا وَسَفَكَ دَمَ
هَلْمًا وَضَرَبَ هَلْمًا فَيُعْطَى هَلْمًا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فُيِّتَ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُجِدَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي
النَّارِ. (رواه مسلم، كتاب البر: ٦٥٤٩)

٤٢. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْطَرَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَلَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه بخاري)

و مسلم)

۴۳. عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَطْرُقُنِي كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (صحيح بخاری و مسلم)

۴۴. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَيَّ غُرِي كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خَضِرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَيَّ جُوعَ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَيَّ ظَمَاءَ سَقَاهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ (سنن ابی داؤد)

۴۵. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صحيح بخاری)

۴۶. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَاتُوا ضِعَاحًا لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ (صحيح مسلم)

۲۔ تعارف فقہ

ماخذ شریعت: کتاب، سنت، اجماع و قیاس، تمام ماخذ پر مبنی صرف ایک سوال پر پوچھا جائے گا۔

عصر حاضر میں اجتہاد کی ضرورت و اہمیت

مطالعہ فقہ: قدوری کی کتاب الصلوٰۃ کا ترجمہ و تشریح (باب کے خلاصے پر مبنی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔)

قدوری کی کتاب الصلوٰۃ میں سے مندرجہ ذیل ابواب خارج کر دیے گئے ہیں۔

باب صلوٰۃ الکسوف والخسوف۔ باب صلوٰۃ الاستسقاء صلوٰۃ فی الکعبہ۔

۳۔ سیرت النبی و تاریخ اسلام

(الف) نبی کریم کے خصائص و امتیازات

مطالعہ سیرت النبی ﷺ کی اہمیت

دعوت دین میں نبی کریم کا طریق کار اور مساعی جمیلہ امن عالم سیرت طیبہ کی روشنی میں

(ب) تاریخ اسلام

۱۔ مسلمانوں کے عروج کے اسباب و اثرات

مسلمانوں کے زوال کے اسباب و اثرات

۲۔ دور بنو عباس اور ہسپانوی مسلمانوں کے رفاہی و فلاحی کارنامے

۳۔ طب، طبیعیات، کیمیا، ریاضی، فلکیات میں مسلمانوں کے کارنامے (ان تمام شعبوں پر مبنی صرف ایک جامع سوال

پوچھا جائے گا۔ الگ الگ شعبہ جات نہیں پوچھے جائیں گے)۔

۴۔ تمام کتاب سے معروضی طرز پر مختصر سوالات پوچھیں جائیں گے۔

نوٹ

یہ سلیپس بورڈ آف سٹڈیز شعبہ علوم اسلامیہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے (11Th) اجلاس منعقدہ 09-12-21 میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔
 نظر ثانی شدہ یہ سلیپس بورڈ آف سٹڈیز شعبہ علوم اسلامیہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے اجلاس منعقدہ 2010-12-21 میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔

نصاب علوم اسلامیہ (آپشنل)

| | |
|-------------|--|
| کل نمبر 100 | برائے امتحان (بی۔ اے) |
| 20 | الف: قرآن پاک کا تعارفی مطالعہ (i) وحی، تدوین قرآن، حفاظت قرآن سکی اور مدنی سورتیں، اعجاز القرآن |
| 40 | (ii) القرآن: سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات کا ترجمہ و تشریح |
| 10 | (iii) سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات کے عنوانات پر جامع نوٹ |
| 15+15=30 | (ب) تاریخ اسلام (خلافت راشدہ) |
| | ۱۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ ان کی زندگی، سیرت، انتظام مملکت اور کارنامے۔ |
| | ۲۔ حضرت عمر فاروقؓ ان کی زندگی، کردار، انتظام سلطنت اور کارنامے۔ |
| | ۳۔ حضرت عثمان غنیؓ ان کی زندگی، سیرت، نظام حکومت اور کارنامے۔ |
| | ۴۔ حضرت علی مرتضیٰؓ ان کی زندگی، کردار، انتظام سلطنت اور کارنامے۔ |
| | ۵۔ خلافت راشدہ کی خصوصیات اور اس کے مذہبی اور ثقافتی کارنامے |